



سوال

(535) تین چار ماہ میں جہری نمازوں میں قرآن مجید ختم کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فرض جہری نمازوں میں تراویح کے انداز میں مسلسل قرآن مجید پڑھنے یعنی تقریباً ۴، ۳ ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا مکمل کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ ایک مفکر اسلام کا کہنا ہے کہ یہ فرائض نماز کے لیے مکروہ ہے۔ کیا ایک روز پیلے یہ بتا دینا کہ کل نماز میں رکوع نمبر، سورہ نمبر، اور آیت نمبر تلاوت کی جائے گی نامناسب ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ جو نمازی عربی سے مکمل واقفیت نہیں رکھتے وہ گھر سے پڑھ کر آئیں؟ براہ مہربانی مستند حوالوں سے روشنی ڈالیں، دل کا اطمینان درکار ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تین چار ماہ میں جہری نمازوں میں قرآن مجید ختم کرنا کراہت سے بہر حال خالی نہیں۔ کمزور و ناتواں اور حاجت مندوں کی رعایت کے پیش نظر نبی کریم ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو عشاء کی نماز میں لمبی قرأت کرنے سے صرف روکا ہی نہیں بلکہ فتنے باز قرار دیا۔ پھر قدرے چھوٹی سورتوں کی تلقین فرمائی۔ بعض دیگر روایات سے بھی اس امر کی راہنمائی ملتی ہے۔ (بلوغ المرام باب صلاة الجمعة والامامة) صحیح البخاری، باب إذا طَوَّلَ الإمام، وكان للزجل حاجة، فخرج فضلي، رقم: ۴۰۱، صحیح مسلم، باب القراءة في العشاء، رقم: ۴۶۵

تاہم باقی نمازوں کی نسبت فجر کی نماز میں لمبی قرأت کرنا مسنون ہے۔ نیز امام کا نمازیوں کو مقام قرأت سے آگاہ کرنا ضروری نہیں، اپنے شوق سے امام کے مقام قرأت سے آگاہ رہیں۔ تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ یہ شے فرائض امامت میں شامل نہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 468

محدث فتویٰ